

## سٹی ایک کیریئر ایکسپو کا انعقاد کر رہا جس میں برامپٹن ٹرانزٹ اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ملازمتوں کے بارے میں خصوصی آگاہی فراہم کی جائے گی۔

برامپٹن، آن (7 فروری 2020) – بروز منگل مورخہ 25 فروری کو دن 3 تا شام 8 بجے تک برامپٹن ٹرانزٹ اور فائر ایمرجنسی سروسز کی ملازمتوں کے منفرد مواقع کے بارے میں جاننے کے لیے کرس گبسن ریکریٹیشن سینٹر میں تشریف لائیں اور سٹی آف برامپٹن کے عملہ کے ساتھ ملاقات کریں۔

ان شعبوں میں بس چلانے اور آگ پر قابو پانے کی ملازمتوں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے مگر ان میں اس کے علاوہ بھی کئی ایسی اسامیاں موجود ہوتی ہیں جو ان کی ٹیم کو مکمل کرنے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلاً سٹی کے ملازم مکینک، فورپرسن اور ایڈمنسٹریٹر بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینیجنگ، کسٹمر سروس، پبلک ایجوکیشن اور دیگر کئی طرح کے ملازمین بھی سٹی کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں۔

درج ذیل کے لیے سٹی کی کیریئر ایکسپو میں شرکت کریں:

- ٹرانزٹ اور فائر کے شعبوں میں کیریئر بنانے اور ترقی پانے کے مواقع کے بارے میں جانیں
- موجودہ طور پر ان ٹیموں میں کام کرنے والے ملازمین کی داستانیں ان کی اپنی زبانی سنیں
- اپنی بہترین صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے ایک مفت ریزیومے کلینک میں شرکت کریں – اپنا ریزیومے اپنے ساتھ لائیں اور سٹی کے ماہرین آپ کے ساتھ مل کر اس کا جائزہ لیں گے

شاندار خدمات کی فراہمی کا کام ایک متاثر کن اور پرجوش ٹیم کی مدد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ سٹی میں یہ موقع پہلی بار منعقد کیا جا رہا ہے اور کیریئر کے مواقع کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ہماری ٹیم نہایت پرجوش ہے۔ اگرچہ ایکسپو کے دوران سٹی امیدواروں سے ریزیومے نہیں لے سکتا مگر سٹی کا عملہ ملازمت کے متلاشیوں کو موزوں قابلیتوں اور ملازمت پر رکھنے کے عمل کے بارے میں معلومات بخوشی فراہم کرے گا۔

کرس گبسن ریکریٹیشن سینٹر، ولیمز پارک وے اور کوئین اسٹریٹ کے درمیان 125 میک لافلن روڈ پر واقع ہے۔

### فوری حقائق

- جنوری 2020 کے مہینے کے دوران سٹی آف برامپٹن کو فوربس کی جانب سے کینیڈا کے 300 چوٹی کے آجرین کی فہرست میں سے **کینیڈا بیسٹ ایمپلائرز 2020** کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ سٹی کا شمار 50 کی فہرست میں موجود سرکاری خدمات کی صرف دو تنظیموں میں سے ایک طور پر کیا گیا۔
- نومبر 2019 میں، سٹی آف برامپٹن نے ایک پانچ سالہ ورک پلیس ڈائینامکس اینڈ انکلوژن اسٹریٹیجی اور ایک ورک پلان تیار کیا۔ اس میں ایک ایسی مزید جامع تنظیمی ثقافت کو فروغ دینے کے مواقع کی نشاندہی کی گئی جو اپنے لوگوں کو وابستہ رکھنے، انہیں ترقی کے مواقع فراہم کر کے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے اور متنوع افرادی قوت کو اپنی جانب راغب کرنے پر مرکوز تھی۔

### اقتباسات

"اچھی طرز حکمرانی کے حامل شہر میں ایک جدید، متنوع اور وابستہ افرادی قوت موجود ہوتی ہے - جو اس وقت سٹی کی نئی پانچ سالہ جائے کار کے تنوع اور شمولیت کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم مل جل کر ایک متنوع افرادی قوت کو فروغ دے رہے ہیں جس کی عکاسی کمیونٹی کے لیے سٹی آف برامپٹن کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات میں واضح نظر آتی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہماری ٹیم اپنے رہائشیوں کے لیے بہترین خدمات انجام دینے کا عمل جاری رکھنے کے لیے پرجوش ہے۔ جو لوگ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں اور ہماری اقدار کو بانٹتے ہیں، کو رغبت دلانے سے کام کا ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں سٹی ملازمین ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ اگر آپ برامپٹن میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ پہلی بار منعقد کی جانے والی اس کیریئر ایکسپو میں ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ ٹرانزٹ یا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میں دلچسپ کیریئر کے بارے میں جان سکیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)